بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

دولت اسلامیہ کی ١٩ رمضان ١٤٣٦ھ کی خبریں پیش خدمت ہیں۔

سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ:

- ولایت رقہ کے شمالی علاقوں میں جنود خلافت کا مزید تقدم۔
- البرکہ شہر کے جنوبی علاقے میں نصیریوں کے ٹھکانوں پر دو استشہادی حملے، اور وہاں کے بجلی گھر سے ان کے ناپاک وجود کا خاتمہ۔
- ولایت صلاح الدین میں بیجی کے جنوبی و غربی علاقے میں رافضی جنگجوؤں کی بیرکوں پر حملے۔
- فلوجہ کے شمالی علاقے میں صفوی فوجیوں کے ٹھکانوں پر دو استشہادی حملے، متعدد صفوی ہلاک اور زخمی۔
- ولایت حماۃ میں السلمیۃ سے رقہ جانے والی ہائی وے پرصفوی فوجیوں کی حملہ کرنے کی کوشش ناکام ۔
- ولایت دیالیٰ میں بارودی سرنگوں کے ذریعے کئی ایک حملے۔

❖ سب سے پہلے ولایت رقہ میں:

اللہ کی فوج اور شیطانی لشکر پیشمرگہ کے درمیان معارک میں تیزی آنے کے بعد رب تعالیٰ نے جنود خلافت کو ولایت کے شمالی علاقوں کی جانب مزید پیش قدمی اور فتوحات سے نوازا ہے، اور انہوں نے وہاں کئی ایک مرتدین کو ذبح بھی کیا ہے۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجاہدین کے لیے علاقے کو ان خبیثوں کی نجاست سے مکمل طور پر پاک کرنا آسان بنا دے۔

سلوک کے شمال مشرقی علاقےمیں مجاہد ابو الیاس التونسی نے پی۔ کے۔ کے جنگجوؤں کے مجموعے پر استشہادی حملہ کیا، جس سے بفضل اللہ بیسیوں مرتدین ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو مرتبۂ شہادت کیلیے قبول فرمائے۔

دوسری جانب ملعون صلیبیوں کے رقہ پر فضائی حملے سے کئی افراد زخمی ہوئے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔

❖ ولایت البرکہ میں:

غزوہ ابو سہل الاردنی میں نصیری افواج سے بجلی گھر میں متعدد جھڑپوں اور وہاں وجود ان کے ٹھکانوں پر دو استشہادی حملوں کے بعد بالآخر خلافت کے شیروں نے بفضل اللہ البرکہ شہر سے نصیریوں کا ناپاک وجود ختم کر دیا ہے۔ الحمد للہ اس معرکے میں مجاہدین نے بھاری مقدار میں ہلکا اور متوسط اسلحہ غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اللہ دونوں استشہادی بھائیوں کو قبول فرمائے۔

❖ ولایت صلاح الدین میں:

بیجی کے مغربی علاقوں میں جاری خونریز معرکوں میں خلافت کے سپاہیوں نے رافضی لشکر کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے کئی ایک کو نظر آتش کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے بیجی کے جنوبی اور غربی علاقوں میں صفوی لشکر اور رافضی ملیشیا کے ٹھکانوں کو مارٹر گولوں سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اللہ ان سے دشمن کو خوب نقصان پہنچائے۔

دوسری جانب بیجی کے غربی و شرقی علاقوں میں مجاہدین نے بھاری اسلحے اور گائیڈڈ میزائلوں کے استعمال سے رافضیوں کے دو ابرامز ٹینک، ایک بکتر بند اور ایک دیگر نوعیت کی گاڑی تباہ کر دی۔ وللہ الحمد ۔

❖ ولایت فلوجہ میں:

جنود خلافت نے صفوی لشکر اور رافضی ملیشیات کے شمالی فلوجہ میں شیحہ پل اور تحویلہ پل کی جانب سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں دو استشہادی حملے کیے گئے۔ پہلا حملہ مجاہد مُرھِف ترکستانی نے کئی ٹن شدید نوعیت کے دھماکہ خیز مواد سے لدے زِیل ٹرک سے کیا، جبکہ دوسرا حملہ مجاہد ابو طاہر الشامی نے دو ٹن شدید دھماکہ خیز مواد سے لدی سلفیڈور گاڑی سے کیا۔ ان حملوں میں متعدد صفوی واصل جہنم اور زخمی ہوئے، اور تین گاڑیاں جزوی طور پر تباہ ہوئیں۔ اللہ ان دونوں بھائیوں کو قبول فرمائے۔ فلوجہ میں لڑائی مسلسل جاری ہے اور ملعون صلیبی صفوی اتحاد کے طیاروں کی شدید بمباری کے باوجود مجاہدینن اپنے معارک میں عزیمت و شجاعت کی سنہری داستانیں رقم کر رہے ہیں۔

اب تک حاصل کی گئی غنیمت میں چار گاڑیاں بھی شامل ہیں، جن میں ایک اسلحے سے بھری تھی اور باقیوں میں مرتدین کی بوسیدہ لاشیں پڑی تھیں۔ زغارید کے علاقے میں اور الشیحہ پل کے قریب بھی مرتدین کی متعدد لاشیں پائی گئی ہیں۔ والحمد للہ ۔

دوسری جانب ذراع دجلہ، قبر عطوان، مصنع عراقی، البوسودہ، معاسکر مزرع، اور معاسکر طارق کے علاقوں میں صفوی لشکر اور مرتد صحوات کے ٹھکانوں کو مقامی تیار شدہ راکٹوں، مختلف کمیتوں کے مارٹر گولوں، اور کاٹیوشا میزائلوں سے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اللہ اسے دشمن کے خوب نقصان کا ذریعہ بنائے۔

شمالی فلوجہ کا علاقہ الزغارید مکمل طور پر دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں ہے، اور میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتوں، خصوصا علاقے میں اقتحام کی خبر کی کوئی حقیقت نہیں۔ وللہ الحمد۔

❖ ولایت حماۃ میں:

نصیری فوج نے السلمیہ سے رقہ جانے والی ہائی وے پر اپنی کھوئی ہوئی چیک پوسٹیں واپس لینے کی کوشش کی، جسے دولت اسلامیہ کے شیروں نے ناکام بنا دیا، اور انہیں بھاری نقصانات سے دوچار کیا۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے ان مجاہد بندوں کو مزید دو چیک پوسٹوں پر بھی فتح عطا فرمائی۔ نیز اللہ کے فضل سے دشمن کی کئی گاڑیاں تباہ ہوئیں، متعدد فوجی مردار ہوئے اور بھاری مقدار میں اسلحہ غنیمت میں حاصل ہوا۔

❖ ولایت دیالیٰ میں:

جنود خلافت نے خان بنی سعد کے علاقے الاسود میں صفوی فوج کے ایک تفتیشی مرکز پر حملہ کیا۔ نیز بغداد، خَن بنی سعد کے علاقے تحویلیہ اور حدید، الداینیہ، اور مقدادیہ کے علاقے الاسیود میں رافضیوں کو بجلی پہنچانے والے کھمبوں کو بارودی سرنگوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے کئی کھمبے تباہ اور متعدد رافضی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسی طرح دو ہمر اور تین دوسری گاڑیاں تباہ ہوئیں اور ان میں موجود فوجی مردار ہوئے، جن میں ریجمنٹ کمانڈر کا نائب، اور کیپٹن بھی شامل ہیں۔ وللہ الحمد ۔

اسی طرح منصوریہ کے علاقے میں صفوی فوج کو مختلف کمیتوں کے مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا، جو کہ ٹھیک ہدف پر جا کر لگے۔ اللہ انہیں دشمن کے خوب نقصان کا ذریعہ بنائے۔

❖ ولایت دمشق میں:

الزبدانی شہر کے غربی پہاڑ کے نیچے الجمعیات کے علاقے میں جنود خلافت نے نصیری فوج اور حزب اللات کی پیش قدمی کی مشترکہ کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، اور ان میں سے چار فوجی سنائیپر کاروائیوں میں مردار ہوئے ہیں۔ الحمد للہ ۔

دوسری جانب صلیبی نصیری اتحاد کے طیاروں نے صحوات کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کی لاحاصل کوشش کے طور پر ضبعہ پہاڑ اور ثنیۃ المنقورہ پر شدید بمباری کی۔

❖ ولایت شمالی بغداد میں:

الطارمیہ کے علاقے تل طاسہ میں جنود خلافت نے رافضیوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا، جس میں 'اوراس علی عبد' نامی افسر شدید زخمی، اور اس کی حفاظت پر مامور عملے میں سے کئی ایک ہلاک اور زخمی ہوئے، اور دو ہمر گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔

اسی طرح الطارمیہ کے قریب العبایجی کے علاقے میں رافضی جنگجوؤں کے مجموعے کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا، جس سے اس مجموعے میں تمام کے تمام واصل جہنم ہوئے۔ والحمد للہ ۔

❖ ولایت سیناء میں:

عریش شہر کے محلے الزہور میں ایک مرتد پولیس افسر کے گھر کو بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا۔ رفح میدان میں موجود مرتد فوج کے معاسکر کو مارٹر گولوں سے بفضل اللہ کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔

اسی طرح الشیخ زوید اور رفح کی درمیانی ہائی وے پرواقع کمین الوفاق پر ایک افسر کو سنائیپر کاروائی میں واصل جہنم کر دیا گیا۔

❖ ولایت جنوب میں:

پانچ دن سے جاری صفوی فوج اور رافضی ملیشیات کے حملے کے دوران ان کی زوبع کی جانب پیش قدمی کو بھی مجاہدین نے ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے دشمن کی پانچ گاڑیاں تباہ کردی

ہیں اور بیسیوں فوجیوں کو واصل جہنم اور زخمی کیا ہے۔ دشمن کی طبی امداد کی گاڑیوں کو مردے اور زخمی اٹھانے کیلیے تیزی سے نقل و حرکت کرتے دیکھا گیا ہے۔

اور عرب جبور میں صفوی لشکر کی ایک گاڑی کو بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا، جس سے وہ مکمل طور پر تباہ اور اس میں موجود تمام فوجی مردار ہوئے۔ الحمد للہ ۔

❖ ولایت الجزیرہ:

سنجار کے پہاڑ پر پیشمرگہ مرتدین کی صلیبی صفوی تحالف کے طیاروں کے تعاون کے ساتھ کی جانے والی پیش قدمی کی کوشش کو مجاہدین نے ناکام بنا دیا ہے۔

❖ ولایت حلب میں:

عین الاسلام کے جنوبی دیہات میں جنود خلافت نے مرتدین کے ایک مجموعے کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا، جس سے چار مرتد مردار ہوئے۔ نیز کئی دوسرے فوجی مقامات کو کاٹیوشا میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔

اسی طرح السفیرہ شہر میں نصیری فوج کے ایک اکٹھ کو مقامی تیار کردہ راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ دعا ہے کہ اس سے دشمن کا خوب نقصان ہوا ہو۔

❖ اور ولایت انبار میں:

ناظم التقسیم کے علاقے کے قریب صفوی لشکر کی دو ہمر گاڑیاں بارودی سرنگ سے تباہ کر دی گئیں، جس سے ان میں موجود تمام فوجی واصل جہنم ہوئے۔